Roll No.
Sig. of Candidate._____

Answer Sheet No	
Sig. of Invigilator.	

Student Bounty. Com

PHILOSOPHY HSSC-II

SECTION - A (Marks 20)

Circle the correct option i.e. A / B / C / D. Each part carries one mark. (i) Who wrote "Mathematical Logic? A. Aristotle B. Plato C. Bacon D. Bertrand F. Enumeration is a argument. A. Definite B. Strong C. Weak D. None of the interest o	It	should be	compulsory .e completed in	n the f	irst 25 minute	s and ha	inded over to	on the q the Cen	uestion paper its tre Superintend
(iii) Enumeration is a argument. A Definite B. Strong C. Weak D. None of the A Definite B. Strong C. Weak D. None of the Material truth is A. Permanent B. Final C. Relative D. None of the In Direct Inference, conclusion is inferred from A. One B. Two C. Three D. Four One B. Two C.	Q. 1 Circ	le the corr	ect option i.e.	A/B/	C / D. Each pa	rt carries	one mark.		
(iii) Enumeration is a argument. A. Definite B. Strong C. Weak D. None of the A. Definite B. Strong C. Weak D. None of the Material truth is A. Permanent B. Final C. Promise (iv) In Direct Inference, conclusion is inferred from A. One B. Two C. Three D. Four (v) In syllogism, conclusion is inferred from D. Promise(s). A. One B. Two C. Three D. Four (vi) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) All men are mortal is a/an D. Particular affirmative proposition D. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition O. Particular affirmative proposition O. Particular negative proposition D. Particular negative proposition O. Neither Subject nor Predicate O. Neither Subject nor Premise O. Neither Subject nor Premise O. Neither Subj	(i)	Who wi	rote "Mathema	tical Lo	gic?				
(iii) Material truth is A. Permanent B. Final C. Relative D. None of th Material truth is A. Permanent B. Final C. Relative D. None of th In Direct Inference, conclusion is Inferred from A. One B. Two C. Three D. Four In syllogism, conclusion is Inferred from premise(s). A. One B. Two C. Three D. Four William of the Material truth is a similar to the Material truth is a similar tr	(7)					C.	Bacon	D	Bertrand Russ
(iii) Material truth is A. Permanent B. Final C. Relative D. None of th In Direct Inference, conclusion is inferred from A. One B. Two C. Three D. Four In syllogism, conclusion is inferred from Premise(s). A. One B. Two C. Three D. Four (vi) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) All men are mortal is a/an A. Universal negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (xi) How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (xi) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. One B. Two C. Three D. Four (xi) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "B" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion	(ii)	Enume	ration is a	2147	_argument.				
(iv) In Direct Inference, conclusion is inferred from premise(s). A. One B. Two C. Three D. Four In syllogism, conclusion is inferred from premise(s). A. One B. Two C. Three D. Four C. Three D. Four (vi) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) All men are mortal is a/an A. Universal negative proposition B. Universal affirmative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition (viii) How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) How many Propositions are there according to Quantity? A. Subject B. Predicate D. Neither Subject nor Predicate (viii) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject B. Predicate D. Neither Subject nor Predicate (viii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate D. Neither Subject nor Predicate (viii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate D. Neither Subject nor Predicate (viiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (viv) Where is Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion D. Conclusion D		A.	Definite	B.	Strong	C.	Weak	D.	None of these
(iv) In Direct Inference, conclusion is inferred from A. One B. Two C. Three D. Four In syllogism, conclusion is inferred from premise(s). A. One B. Two C. Three D. Four Vivi How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. Universal negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. One B. Two C. Three D. Four Vivi A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate Vivi Vivi A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate Vivi Vivi A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate Vivi Vivi A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion D. Neither Subject nor Premis	(iii)	Materia				1120			**
(v) In syllogism, conclusion is inferred from	20.00							D.	None of these
(v) In syllogism, conclusion is inferred from	(IV)							D	Four
(vi) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (vii) All men are mortal is a/an A. Universal negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Three C. Three C. Three D. Four C. Three D. Pour C. Particular negative proposition C. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise	(44)							D.	roui
(vi) How many Terms are there in a Syllogism? A. One B. Two C. Three D. Four (viii) How many Proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition (viii) How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Midel Term situated? A. Major Premise and Secondary Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E. C. I D. O (ix) None of the Turth Table of Implicative proposition, if p is F and q is F then p.	(V)						A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	D	Four
(vii) All men are mortal is a/an_A. Universal negative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition Particular negative proposition C. Particular affirmative proposition D. Particular negative proposition C. Particular negative proposition C. Particular negative proposition D. Particular negative proposition C. Particular negative proposition C. Three D. Four C. Three D. Four C. Three D. Pour C. Three D. Four C. Three D. Pedicate D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclu	(vi)					0.	111100		1 0 01
(viii) All men are mortal is a/an A Universal negative proposition C Particular affirmative proposition D Particular affirmative proposition C Particular affirmative proposition D Particular negative proposition (viii) How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (X) Mich Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (Xi) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (Xiii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (Xiiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (Xiiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (Xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise (Xiv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion D. Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion D. Mone of th D. None of th	(*1)	-				C.	Three	D.	Four
A. Universal negative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular affirmative proposition C. Particular negative proposition C. Three D. Four C. Three D. Four C. Three D. Four C. Three D. Four C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate C. Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion	(vii)		are mortal is a		3.77.7	3.0			
C. Particular affirmative proposition (viii) How many Propositions are there according to Quality? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (ix) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (ix) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (ix) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion (ix) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion (ix) Where is Middle Term situated? A. B. E. C. I. D. O (ix) Where is Minor Premise and Conclusion D. None of the Conc		A.	Universal neg	ative pr	roposition	B.	Universal at	firmative	proposition
A. One B. Two C. Three D. Four How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (x) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xi) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) None of the Tuth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p. q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the December of the Proposition			Particular affir	rmative	proposition			egative pr	oposition
(ix) How many Propositions are there according to Quantity? A. One B. Two C. Three D. Four (x) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xi) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject B. Predicate C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion C. Minor Premise and Conclusion	(viii)	How m		ns are t					120
A. One B. Two C. Three D. Four Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xi) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion	091101							D.	Four
(x) Which Term is distributed in "A" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xi) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xvii) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. Unknown D. None of the Conclusion D. None of the Conclu	(ix)							-	-
A. Subject C. Both A and B Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Mino	6.5				1571 A 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Inree	D.	Four
C. Both A and B Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Co	(x)			itea in	A Proposition		Dradicate		
(xi) Which Term is distributed in "E" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Minor Premise D. Major Premise and Conclusion C. Will Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion D. Conclusion C. Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the None								iect nor P	redicate
A. Subject C. Both A and B Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the None	(vi)				F" Proposition		Neither Out	ject nor r	redicate
C. Both A and B Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Control o	(///			ated iii	L 1 Toposition		Predicate		
(xii) Which Term is distributed in "I" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the None o								iect nor P	redicate
A. Subject C. Both A and B Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise B. Major Premise B. D. Major Premise B. M	(xii)			uted in "	I" Proposition?				027620000
(xiii) Which Term is distributed in "O" Proposition? A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated?	, Y					B.	Predicate		
A. Subject C. Both A and B D. Neither Subject nor Predicate (xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p ⊃ q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition D. Conclusion		C.	Both A and B			D.	Neither Sub	ject nor P	redicate
C. Both A and B Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise D. Minor Premise Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the C. U	(xiii)	Which '		uted in "	O" Proposition				
(xiv) Where is Major Term situated? A. Major Premise and Minor Premise C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of th									
A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise and Conclusion Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the C. Unknown D. None of th	2000			laren eran eran eran eran eran eran eran		D.	Neither Sub	ject nor P	redicate
C. Minor Premise and Conclusion D. Minor Premise (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition Premise A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition Premise A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition Premise A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition Premise A. T B. F C. Unknown D. N	(XIV)					D	Major Brom	ice and C	onclusion
 (xv) Where is Minor Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xiv) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the A. T B. F C. Unknown D. None of the Cxx (xx) In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Cxx 									Officiasion
A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Cxx) In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then , p D q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Cxx	(vv)					D.	WIIIOI FIEIII	150	
C. Minor Premise and Conclusion D. Major Premise (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is T and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is T and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is T and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is T and q is T then, p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is T and q is T then, p p p q will be C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition p	(^V)					В	Major Prem	ise and C	onclusion
 (xvi) Where is Middle Term situated? A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion C. Minor Premise and Conclusion D. Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and Q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and Q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and Q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition, if p is F and Q is T then p. Q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the Conjunctive proposition D. None of the Co									
A. Major Premise and Minor Premise B. Major Premise and Conclusion (xvii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xviii) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be C. Unknown D. None of the In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then, p D q will be None of the Interval Table of Implicative proposition is Table	(xvi)					2.0			
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			Major Premise	e and N	linor Premise	B.	Major Prem	ise and C	onclusion
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		C.	Minor Premise	e and C	onclusion	D.	Conclusion		
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									
A. A B. E C. I D. O (xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be	(xvii		Which Propo	sition is	represented b	y the follow	wing diagram?		
(xviii) Which Proposition is represented by the following diagram? A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be		4. 6		-	_	0	T.	-	0
A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be		A.	A	В.	E	C.	L	D.	O
A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is T and q is F then p.q will be	/wwiii	((Which Propo	scition is	roprocented h	v the follow	wing diagram?		
A. A B. E C. I D. O (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is T and q is F then p.q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the conjunctive proposition is p is T and q is F then p.q will be	(XVII		William Propu	SILIOIT IS	represented b	y the tollo	willy diagrams		
 (xix) In the Truth Table of Conjunctive proposition, if p is T and q is F then p.q will be		7-13-1-14-1-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	A	В	F	C	Ĭ.	D	0
A. T B. F C. Unknown D. None of the (xx) In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be A. T B. F C. Unknown D. None of the	(xix)						and g is F then		
 (xx) In the Truth Table of Implicative proposition, if p is F and q is T then , p ⊃ q will be	()		-					The same of the sa	None of these
A. T B. F C. Unknown D. None of th	(xx)	In the T	ruth Table of I	mplicati	ve proposition,	if p is F ar		$p \supset q w$	
For Examiner's use only:	1 5 6		man and a second		F				None of these
For Examiner's use only:									
HANDY IVERSION DECEMBER ASSOCIATED TO THE RESIDENCE OF TH	For	Examiner's	s use only:						
Total Marks: 20						70 <u>200</u> 10 (2000)			

Marks Obtained:

Roll No.

فلاسفى . ايچ ايس ايس سي-١١

100	Ch	THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	180	ver Shee						0.
BOUNE			ator	Invigilat	Sig. of					f Candidate
13			فلاس	سفى	۔ ایچ	ایس ای	س سر	ی-۱۱		
	وقت: 5	25منث		حت	اوّل (گ	ىل نمبر:20 <u>)</u>	(
	٠.٤.٥	حداة ل لازى ہے۔اس كے جوابات پر بے ہے؟	1º . 5 10 11					Saka Id	ره ار کامیز ک	مان يونيس لرونيس كراستدا
	سوال م	برا: دیے گئے الفاظ یعنی اا	ف ربارج	ج رو میں۔	سے ورست	جواب کے کر	رو وائزولگا	7.702	وكاايك تمب	-4,
	(i)	"Mathematical Logic"	ئىكىسى؟							
		الف- ارسطو	ب-	افلاطون		-2	بيكن		- 2	يرزيندرسل
	(ii)	سنتی <u>ست</u> دلیل ہے۔ مقد								26.
	/IIIN	الف_ یقین مادی علی موتی ہے۔		مضبوط مستقل		ج حتمی	کزور ج-	نبتى	و _ و_	درج شدہ میں سے کوئی ^م درج شدہ میں سے کوئی ^م
	(iii) (iv)	مادی سچاں ہے۔ استثناج بلاواسط میں متبعہ کتنے مقد مات سے				U	-0	0.		ورن سده ۱۰۰ سے وی
*	(14)	الف۔ ایک الف۔ ایک		99		-2	تثين		- 3	يار
	(v)	" قیاس میں نتیجہ کتنے مقدمات سے اخذ کیا جاتا								*
		الف ايك	,	9.9		-&	تغين		- 3	چار
	(vi)	قياس ميس تتني صدود جوتي إين؟	الف	آيک		33	-2-	تخين	~)	چار
	(vii)	تمام انسان فانی بین کیا ہے؟	الف	كليدسالبه	- <u>-</u> -	كلييموجييه	-&	2927	-3 ·	جزئيهالبه
	(viii)	كيفيت كالحاظ بي كفي قضاياء بين؟		آيک		33	-2	تعن	-3	چار
	(ix)	كيت كاظ عكة قضاياء بين؟	الف- أ	ایک		n	-2	تغين	+ 3	چار
	(x)	"A" قضيه ميس كون ي حد جامع ہے؟		13			4 40	. 1		15 16 3
	(ivi)	الف_ موضوع "E" قضيه مي كون كي حد جامع ہے؟		محمول		-3	الفاورب	بادواول	-)	ندموضوع اور مذمحول
	(xi)	الف_ موضوع الف_ موضوع		محمول		ئ-	الفادر	رواول	- 2	نة موضوع اور يرجحول
	(xii)	"ا" تفيه يس كون ي حد جامع ہے؟								0.22
	35,05	الف- موضوع	·	محبول		-2	الفاورب	بووتول	-)	نة موضوع اورنة محول
	(xiii)	"0" قضيه مين كون ي حد جامع ہے؟ الف.	. موضوع		محمول	-ق	الفاورب	ب دونو ں	_)	ينه موضوع اور ندمحمول
	(xiv)	حدا كبركهان موتى ٢٠								
		الف_ مقدمه کبری اورمقدمه صغری		مقدمه كبرئ	اور تيجه	-2	مقدمه صغرة	فأ اور نتيجه	_)	مقدمه صغرى
	(xv)	حداصغر کہاں ہوتی ہے؟		40-			(4)	*.		40
	(sa-5)	الف۔ مقدمہ کبری اور مقدمہ صفریٰ حداوسط کہاں ہوتی ہے؟		مقدمه كبرى	أورهيجيه	-2	مقدمه صغر	في اور همچه	_)	مقدمه كبرى
	(xvi)	حداوسط کہاں ہوی ہے؟ الف۔ مقدمہ کبری اور مقدمہ صغریٰ		مقدمه كبري	5 ⁷ 0.1	-2	مقدمهصغرة	فأراه ومتحق	ر_	بيجية
						-0	/	4.750	7/	-
6	(xvii)	(S) (P) دَائِيگرام مِن كُون ساقضية	ين كياجاتا ٢٠	الف-	Α		č E	1 -	-)	0
		(S) (P)								
	(xviii)	ۋائىگرام مىر كۈن ساقضيەۋ	يُن كياجا تا ہے؟	الف-	Α		Č E	1 -	-)	0
		(S) (P)								
	(xix)	اشتراکی قضیے کے جائی کے گوشوارے میں اگ								
	. Leissane	الف. T					نامعلوم		- 3	درج شدہ میں سے کوئی
	(xx)	ولالتی تفیے کے جائی کے گوشوارے میں ا				7 Bach 1				DESC.
		الف ـ		F		-2	تامعلوم		-)	درج شدہ میں سے کوئی

-----2HA 1134-----



PHILOSOPHY HSSC-II

Student Bounty.com

Time allowed: 2:35 Hours

Total Marks Sections B and C: 80

NOTE:-

Answer any fifteen parts from Section 'B(a)', one part from Section 'B(b)' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION - B (Marks 50)

		SECTION – B (Marks 50)	
Q. 2	(a)	Attempt any FIFTEEN parts. Be brief and to the point in your answer.	$(15 \times 3 = 45)$
	(i)	What do you know about Term?	
	(ii)	Write a short note on Inference.	
	(iii)	What are Subject and Predicate?	
	(iv)	What is the difference between Material Truth and Formal Truth?	
	(v)	What is the difference between Truth and Validity?	
	(vi)	Write briefly the Informative use of language.	
	(vii)	Write a short note on the Expressive use of language.	
	(viii)	What is the Directive use of language?	
	(ix)	Write briefly about the Fallacy appeal to Force.	
	(x)	Write a short note on the Fallacy appeal to Emotion.	
	(xi)	What do you know about the Fallacy of Equivocation?	
	(xii)	What is the Fallacy of Amphiboly?	
	(xiii)	Which fallacy is committed in the following syllogism AAA-II.	
	(xiv)	Which fallacy is committed in the following syllogism AIA-I.	
	(xv)	Which fallacies are committed in the following syllogism AOE-II.	
	(xvi)	Which fallacy is committed in the following syllogism EEO-III.	
	(xvii)	What is meant by Major Premise?	
	(xviii)	Define Analogy?	
	(xix)	Write down the Truth Table of Disjunctive proposition.	
	(xx)	Write down the Truth Table of Implicative proposition.	
	(xxi)	Write down the Truth Table of Equivalent Proposition.	
	(b)	Attempt any ONE part.	$(1 \times 5 = 5)$
	(i)	Write a note on Language as an Instrument.	

Section "C" (Marks 30)

Attempt any THREE Questions. All questions carry equal marks

What is the difference between Induction and Deduction?

(3x10 = 30)

- Q. 3 Write down the Scientific and Unscientific characteristics of a good hypothesis in detail.
- Q. 4 Elaborate the Rules of Syllogism.

(ii)

- Q. 5 Draw four Venn Diagrams and write a note on them.
- Q. 6 Describe the three laws of thought.

---- 2HA 1134----

فلاسفى ـ ايچ ايس ايس سي -١١

Student Bounty.com

گل نمبر حشدوم اور حشد سوم: 80

صة "دوم" اور "سوم" كے سوالات كے جوابات عليحده مياكى كى جوابى كالى برديں۔ حقة "دوم -الف" ميں سے پندره (15) اجزاء، "دوم -ب" ميں سے

ایک (1) بزو اورحقہ "سوم" میں سے کوئی سے تین (3) سوال اللہ کیجے۔ ایک شراشیٹ (Sheet-B) طلب کرنے پرمہیا کی جائے گ

حقه دوم (گل نمبر 50)

رع: الف: مندرجدذيل اجزاء ميس سے يندره (15) كے جوابات كميس جوابات مخفراورسوالات كے عين مطابق مونے جا يميس - (15×3=45)	سوال نمبر
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

		67.0	
(i)	حدے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟	(ii)	استنتاج برمختفرنوك كهيس-
(iii)	موضوع اورمحول کیا ہیں؟	(iv)	مادی سچائی اور صوری سچائی میں کیا فرق ہے؟
(v)	سچائی اور صحت میس کیا فرق ہے؟	(vi)	زبان كالطلاعاتى استعال مختصراً لكهيس_
(vii)	زبان کے اظہاراتی استعال برمختصرنوٹ کھیں۔	(viii)	زبان کاہدایاتی استعال کیاہے؟
(ix)	مغالطرٌ اپیل برائے طاقت کے بارے میں مخضر اُلکھیے۔	(x)	مغالطهٔ اپیل برائے بیجان پرمخضرنوٹ کھیں۔
(xi)	مخالط ُ الفاظ ذومعن كے بارے ميں آپ كيا جائے ہيں؟	(xii)	مغالطه ابهام کیا ہے؟
(xiii)	دیے گئے قیاس میں کون سامغالط سرزد ہوا ہ؟ AAA-II		
(xiv)	دیے گئے قیاس میں کون سامغالط سرز دہواہ؟ ا-AIA		
(xv)	دیے گئے قیاس میں کون ے مفالطے سرز دہوئے ہیں؟ AOE-II	(xvi)	دیے گئے قیاس میں کون سامغالط سرز دجواہے؟ EEO-III
(xvii)	مقدمه کبریٰ ہے کیا مراو ہے؟	(xviii)	تمثیل کی تعریف کریں۔
(xix)	اجتماعی قضیے کاسپائی کا گوشوار و کھیں۔	(xx)	دالتي قضيه كا حيائي كا كوشواره كهيس
(xxi)	متعادل قضیے کاسچائی کا گوشوار پہنسیں ۔		

مندرجيذيل مين سايك (1) جزو كاجواب كليس:-(1x5=5)

> استقر اءاوراتخراج میں کیافرق ہے؟ (i) زبان، بطور آله برنوٹ لکھیں۔

> > صه سوم (گل نمبر 30)

(کوئی سے تین سوال حل کیجے۔ تمام سوالوں کے تمبر برابر ہیں۔) (3x10=30)

> الجحيم مفروض كي سائنسي اور غيرسائنسي خصوصيات تفصيلاً لكهيه _ سوال تميرس:

قیاس کے تواعد کی وضاحت کریں۔ سوال نمبريم:

جاروین ڈائیگرام بنائیس اوراُن پرنوٹ کھیں۔ سوال نميره:

فکر کے تنین اصول بان کریں۔ سوال تمبر ٢:

----2HA 1134-----